

دارالافتاء اہلسنت

(دعوت اسلامی)

سوال

Love Marriage کرنا گناہ یا حرام ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پسند کی شادی کرنا منع نہیں ہے بلکہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح کو بہترین چیز قرار دیا گیا ہے لہذا اگر کسی سے نکاح کا ارادہ ہو اور اس دوران کسی قسم کی غیر شرعی حرکت کا ارتکاب نہ کیا جائے اور کسی جائز اور مہذب ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیجا جائے، جسے لڑکی اور اس کا ولی قبول کر لے تو بیشک ایسی پسند کی شادی اسلام میں جائز ہے۔

البتہ! مروجہ Love Marriage یعنی پسند کی شادی جو کئی گناہوں کا مجموعہ ہوتی ہے مثلاً مرد و عورت نکاح سے پہلے ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتے ہیں، بے تکلفی، ملاقاتیں کرنا، فون پر باتیں کرنا، تنہائی میں جمع ہونا، ایک دوسرے کو چھونا حتیٰ کہ نکاح سے پہلے جسمانی تعلقات کا قائم ہو جانا، اگر والدین راضی نہ ہوں تو ان کی مرضی کے خلاف نکاح کر لینا، وغیرہ یہ ایک شیطانی کام اور سراسر گناہ ہے بلکہ اگر لڑکی نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح کیا تو ہو گا ہی نہیں۔ اس طور پر ہونے والی محبت کی شادی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پسند کی شادی کے نام پر ہونے والی مذکورہ تمام خرافات کا ناجائز و حرام ہونا، کسی مسلمان پر مخفی نہیں ہے۔

سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”لم نر- (یر)- للمتحابین مثل النکاح“ ترجمہ: دو محبت کرنے والوں کے لیے ہم نے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی یا نہ دیکھی گئی۔ (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث 1847، ج 1، ص 593، دار احیاء الکتب العربیہ)

غیر محرم اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ألا لا یخلون رجل بامرأة إلا كانا لثما الشیطان“ ترجمہ: خبردار! کوئی شخص کسی عورت سے خلوت نہیں کرتا، مگر ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ (سنن الترمذی، رقم الحدیث 2165، ج 4، ص 465، مطبوعہ مصر)

بہار شریعت میں ہے ”اجنبیہ عورت کے چہرہ اور ہتھیلی کو دیکھنا اگرچہ جائز ہے مگر چھونا جائز نہیں، اگرچہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو کیونکہ نظر کے جواز کی وجہ ضرورت اور بلوائے عام ہے چھونے کی ضرورت نہیں، لہذا چھونا حرام ہے۔ (بہار شریعت، ج 03، حصہ 16، ص 446، مکتبۃ المدینہ)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ



Darul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)



www.daruliftaahlesunnat.net



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



feedback@daruliftaahlesunnat.net